

2013-2014 سے 2015-2016 میں نویں گریڈ میں داخل ہونے والے طلباء کے لیے گریجویشن کی شرائط

اسٹینڈرڈ ڈپلومہ تصدیق شدہ کریڈٹ پونٹس	اسٹینڈرڈ ڈپلومہ معیاری کریڈٹ پونٹس	ایڈوانس اسٹڈیز ڈپلومہ تصدیق شدہ کریڈٹ پونٹس	ایڈوانس اسٹڈیز ڈپلومہ معیاری کریڈٹ پونٹس	لازمی کورس
2	4	2	4	انگریزی: 9,10,11,12 ریاضی:
1	3	2	4	1. اسٹینڈرڈ ڈپلومہ: ان میں سے کم از کم دو مختلف کورسز کا انتخاب: الجبرا I، جیومیٹری، الجبرا II یا الجبرا II کی سطح سے اوپر کے ریاضی کے دیگر کورسز۔ 2. ایڈوانسڈ اسٹڈیز ڈپلومہ: ان میں سے کم از کم تین مختلف کورسز کا انتخاب: الجبرا I، جیومیٹری، الجبرا II یا الجبرا II کی سطح سے اوپر کے ریاضی کے دیگر کورسز۔
1#	3	2	4	لیبارٹری سائنس: 1. اسٹینڈرڈ ڈپلومہ: ان میں سے سائنس کے کم از کم دو مختلف موضوعات کا انتخاب: ارضیاتی سائنس، حیاتیات، کیمیا یا فزکس۔ 2. ایڈوانسڈ اسٹڈیز ڈپلومہ: ان میں سے سائنس کے کم از کم تین مختلف موضوعات کا انتخاب: ارضیاتی سائنس، حیاتیات، کیمیا یا فزکس؛ یا International Baccalaureate Diploma کے لیے سائنس کے کورسز کی ترتیب وار تکمیل ضروری ہے۔
1#	3	2	4	تاریخ اور معاشرتی سائنس: 1. اسٹینڈرڈ ڈپلومہ: امریکہ اور ورجینیا کی تاریخ، امریکہ اور ورجینیا گورنمنٹ اور عالمی تاریخ اور جغرافیہ I یا عالمی تاریخ اور جغرافیہ II شامل کیئے جانے چاہئیں۔ 2. ایڈوانسڈ اسٹڈیز ڈپلومہ: امریکہ اور ورجینیا کی تاریخ، امریکہ اور ورجینیا گورنمنٹ، عالمی تاریخ اور جغرافیہ I اور عالمی تاریخ اور جغرافیہ II شامل کیئے جانے چاہئیں۔
	2		2	صحت اور جسمانی تعلیم: 9,10
	1		1	معاشیات اور ذاتی مالیات
			3	عالمی زبان: ایک زبان کے تین سال یا دو زبانوں کے دو سال شامل کیئے جانے چاہئیں۔
	1		1	فنون لطیفہ یا پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم (CTE)
	1			عالمی زبان، فنون لطیفہ یا پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم
	4		3	اختیاری مضامین: 1. صرف اسٹینڈرڈ ڈپلومہ: متواتر کیئے جانے والے کم از کم دو اختیاری مضامین شامل کیئے جانے چاہئیں۔
1#		1^		طالب علم کا انتخابی ٹیسٹ:
6	22	9	26	مجموعی کریڈٹس درکار:

ایڈوانس ڈپلومہ کے لیے اضافی شرائط: *Virtual Course
اسٹینڈرڈ ڈپلومہ کے لیے اضافی شرائط: *Virtual Course and CTE Credential+

* طالب علم کے لیے ایک virtual course کامیابی سے مکمل کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی بھی بغیر کریڈٹ والا کورس ہو سکتا ہے یا کوئی کریڈٹ والا اختیاری کورس ہو سکتا ہے جو ان لائن پیش کیا جاتا ہے۔

+ طلباء کو محکمہ تعلیم کی جانب سے منظور شدہ ایک پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی سند حاصل کرنی ہوگی، اس میں کسی صنعت کی سرٹیفیکیشن کی کامیابی سے تکمیل، ایک ریاستی لائسنس کا امتحان، قومی سطح کا کسی پیشے میں مہارت کا ٹیسٹ یا ورجینیا میں کسی جگہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہونے کی تشخیص شامل ہے، تاہم یہ فہرست حتمی نہیں۔

ایسے طالب علم جو CTE کے کسی ایسے شعبے میں، جس میں کسی مستند صنعت یا کسی تجارتی یا پیشہ ورانہ تنظیم کی طرف سے کوئی سرٹیفیکٹ جاری کیا جاتا ہے یا پیشہ ورانہ مہارت کی تصدیق کی جاتی ہے یا کامن ویلتھ آف ورجینیا سے CTE پروگرام کے شعبے میں کوئی پیشہ ورانہ لائسنس حاصل کر لیتے ہیں، وہ (i) طالب علم کی طرف سے منتخب کردہ تصدیق شدہ کریڈٹ کے بدلے اس سرٹیفیکٹ، پیشہ ورانہ مہارت کی تصدیق یا لائسنس کو استعمال کر سکتے ہیں اور (ii) جب سرٹیفیکٹ، تصدیق نامہ یا لائسنس سے ایک سے زیادہ تصدیق شدہ کریڈٹ ملتا ہے تو وہ اسے سائنس، تاریخ یا معاشرتی سائنس کے متبادل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ امتحان یا پیشہ ورانہ مہارت کا ٹیسٹ طالب علم کی کارکردگی کی تصدیق کے لیے ایک اضافی ٹیسٹ کی حیثیت سے محکمہ تعلیم کی جانب سے منظور شدہ ہونا چاہیئے۔

^ کوئی بھی طالب علم کمپیوٹر سائنس، ٹیکنالوجی، CTE، معاشیات یا دیگر شعبوں میں تصدیق شدہ کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے اضافی SOL امتحانات یا ٹیسٹوں کا استعمال کر سکتا ہے، جس کی ہدایات بورڈ کی طرف سے 8 VAC 20-131-110 میں دی گئی ہیں۔